

# Deu

## Chapter 10

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	בְּעֵת	הַהוּא	אָמַר	יְהוָה	אֵלַי	פָּסַל-	לָךְ	שְׁנֵי-	לוֹחַת	אֲבָנִים	כָּרַשְׁתִּים
	وقت-میں	اُس	کہا	یہوواہ-نے	مجھ-سے	تراش	اپنے-لیے	دو	تختیاں	پتھر-کی	پہلی-کی-طرح
	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6458</a>		<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H7223</a>
	וְעַל	אֵלַי	הַתְּרָה	וְעִשִׂיתָ	לָךְ	אֲרוֹן	עֵץ:				
	اور-چڑھ	میرے-پاس	پہاڑ-پر	اور-بنا	اپنے-لیے	صندوق	لکڑی-کا				
	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2022</a>			<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H6086</a>				

صندوق کا لکڑی آ۔ چڑھ پر پہاڑ پاس میرے کر لے انہیں ہوں۔ مانند کی تختیوں پہلی جو تراشنا تختیاں اور دو کی پتھر کہا، سے مجھ نے رب وقت اُس بنانا بھی

2	וְאֶכְתֹּב	עַל-	הַלְּחֹת	אֶת-	הַדְּבָרִים	אֲשֶׁר	הָיוּ	עַל-	הַלְּחֹת	הַרְאִשִּׁים	אֲשֶׁר
	اور-لکھوں-گا	پر	تختیوں	کو	باتیں	جو	تھیں	پر	تختیوں	پہلی	جو
	<a href="#">H3789</a>		<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H7223</a>	
	שְׂבָרָתִי	וְשִׁמְתֶם	בְּאֲרוֹן:								
	توڑیں-ٹو-نے	اور-رکھ-دے-انہیں	صندوق-میں								
	<a href="#">H7665</a>		<a href="#">H0727</a>								

ہے۔ رکھنا محفوظ میں صندوق انہیں تمہیں ڈالیں۔ توڑنے ٹو جو تھا چکا لکھ پر تختیوں اُن میں جو گا لکھوں باتیں وہی دوبارہ پر تختیوں ان میں پھر

3	וְאֶעֱשֶׂה	אֲרוֹן	עֵצֵי	שֵׁטִים	וְאֶפְסֹל	שְׁנֵי-	לְחֹת	אֲבָנִים	כָּרַשְׁתִּים		
	اور-بنایا-میں-نے	صندوق	لکڑی-کی	کیکر	اور-تراشا-میں-نے	دو	تختیاں	پتھر-کی	پہلی-کی-طرح		
		<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H7848</a>	<a href="#">H6458</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H7223</a>		
	וְאֶעֱלֶה	הַתְּרָה	וְשָׁנִי	הַלְּחֹת	בְּיָדִי:						
	اور-چڑھا-میں	پہاڑ-پر	اور-دو	تختیاں	میرے-ہاتھ-میں						
	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H3027</a>						

گیا۔ چڑھ پر پہاڑ کر لے تختیاں دونوں میں پھر تھیں۔ مانند کی تختیوں پہلی جو تراشیں تختیاں دو اور بنوایا صندوق کا لکڑی کی کیکر نے میں

4	וַיִּכְתֹּב	עַל-	הַלְּחֹת	כְּמִכְתָּב	הַרְאִשׁוֹן	אֶת	עֲשֵׂרֹת	הַדְּבָרִים	אֲשֶׁר	דִּבֶּר	יְהוָה
	اور-لکھا	پر	تختیوں	تحریر-کی-طرح	پہلی	کو	دس	باتیں	جو	کہا	یہوواہ-نے
	<a href="#">H3789</a>		<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H4385</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3068</a>
	אֲלֵיכֶם	בְּהָר	מִתּוֹךְ	הָאֵשׁ	בְּיָוִם	הַקִּהְלָה	וַיִּתְּנֶם	יְהוָה	אֵלַי:		
	تم-سے	پہاڑ-پر	بیچ-سے	آگ-کے	دن-میں	اجتماع-کے	اور-دیا-انہیں	یہوواہ-نے	مجھے		
	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H6951</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>		

تم جب تھا کیا سے میں آگ پر پہاڑ نے اُس اعلان کا احکام ہی) اُن تھا۔ چکا لکھ پر تختیوں پہلی وہ جو دیئے لکھ احکام دس وہ دوبارہ پر تختیوں اُن نے رب کیں۔ سپرد میرے تختیاں یہ نے اُس پھر تھے۔ (جمع میں دامن کے اُس

5	וְאֶפְּן	וְאֶרְדּוּ	מִן-	הַהָר	וְאֶשֶׁם	אֶת-	הַלְּחֹת	בְּאֲרוֹן	אֲשֶׁר	עֲשִׂיתִי
	اور-مڑا-میں	اور-اُترا	سے	پہاڑ	اور-رکھا-میں-نے	کو	تختیوں	صندوق-میں	جو	بنایا-میں-نے
	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H3381</a>		<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3871</a>	<a href="#">H0727</a>		
	וַיְהִי	שָׁם	כַּאֲשֶׁר	צִוִּיתִי	יְהוָה:					
	اور-رہیں	وہاں	جیسا	حکم-دیا-مجھے	یہوواہ-نے					
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8033</a>		<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>					

تھا۔ دیا حکم نے رب جیسا ہوا ہی ویسا کچھ سب ہیں۔ تک اب وہ وہاں تھا۔ بنایا نے میں جو رکھا میں صندوق اُس کو تختیوں اور اُترا کر لوٹ میں

6	וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל	נִסְעוּ	מִבְּאֵר תְּבַיִי-יַעֲקֹב	מוֹסִירָה	שָׁם	מֵת אַהֲרֹן	וַיִּקְבֹּר	שָׁם
	اور-بنی اسرائیل	روانہ-بوئے	بئیروت-بنی-یعقوب سے	موسیرہ-کو	وہاں	مرا	اور-دفنایا-گیا	وہاں
	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H0885</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H6912</a>	<a href="#">H8033</a>

وַיִּכְהֵן	אֶלְעָזָר	בְּנֵי	תַּחֲתָיו:
اور-کہانت-کی	اليعزر-نے	اُس-کے-بیٹے-نے	اُس-کی-جگہ
<a href="#">H3547</a>	<a href="#">H0499</a>		<a href="#">H8478</a>

جگہ کی اُس عزرا الی بیٹا کا اُس بعد کے کرنے دفن اُسے ہوا۔ فوت ہارون وہاں پہنچے۔ موسیرہ کر بو روانہ سے کنوؤں کے یعقوب بنی اسرائیلی بعد کے (اس بنا امام

7	מִשָּׁם	נִסְעוּ	הַהַרְזָה	וּמִן-הַהַרְזָה	יִשְׁבְּתָה	אֶרֶץ	גִּלְיָה	מַיִם:
	وہاں-سے	روانہ-بوئے	جدجدہ-کو	اور-سے	جدجدہ	یطبثہ-کو	ندیوں-کی	پانی-کی
	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H1412</a>	<a href="#">H1412</a>	<a href="#">H3193</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4325</a>	

بیں-نہریں جہاں پہنچے یطباتہ پھر جدجدہ، کرتے کرتے سفر آگے وہ پھر

8	בְּעֵת	הַהוּא	הַבְּרִיל	יְהוּדָה	אֶת-שִׁבְט	הַלְוִי	לְשֵׁאת	אֶת-אֲרוֹן	בְּרִית-
	وقت-میں	اُس	الگ-کیا	یہوواہ-نے	کو	قبیلے	اٹھانے-کو	کو	صندوق
	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0914</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0727</a>

یְהוּדָה	לְעֹמֵד	לְפָנָיו	יְהוּדָה	לְשֵׁאתוֹ	וּלְבָרְכָהּ	בְּשֵׁמוֹ	עַד
یہوواہ-کے	کھڑے-ہونے-کو	سامنے	یہوواہ-کے	خدمت-کرنے-کو-اُس-کی	اور-برکت-دینے-کو	اُس-کے-نام-سے	تک
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8334</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H5704</a>

הַיּוֹם הַזֶּה:  
 دن  
 اِس  
[H3117](#)  
[H2088](#)

برکت سے نام کے اُس اور کرنے خدمت حضور کے رب جانے، لے کر اٹھا کو صندوق کے عہد کے رب اُسے کے کر الگ کو قبیلے کے لاوی نے رب میں دنوں اُن بے-ربی داری ذمہ کی اُن یہ تک آج دی۔ داری ذمہ کی دینے

9	עַל-	כִּן	לֹא-	הָיָה	לְלוֹי	חֶלֶק	וּנְחִלָּה	עִם-	אֲחָיו	יְהוּדָה	הוּא
	اِس-لیے	اِسی	نہیں	ہوا	لاوی-کو	حصہ	اور-میراث	ساتھ	اپنے-بھائیوں-کے	یہوواہ	وہ
		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3878</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1931</a>			

اُس-کی-میراث-بے  
 جیسا  
 کہا  
 یہوواہ-نے  
 تیرے-خدا-نے  
 اُس-سے  
[H5159](#)  
[H1696](#)  
[H3068](#)  
[H0430](#)

بے۔(فرمایا یہ اُنہیں خود نے اُس بے۔ میراث کی اُن خود خدا تیرا رب ملی۔ میراث نہ حصہ نہ طرح کی قبیلوں دیگر کو لاویوں سے وجہ اِس

10	وَإِنِّي	عَمَدَتِي	بָהָر	כַּיּוֹמִים	הָרִאשֹׁנִים	אַרְבַּעִים	יּוֹם	וְאַרְבַּעִים	לַיְלָה	וַיִּשְׁמַע
	اور-میں	کھڑا-رہا	پہاڑ-پر	دنوں-کی-طرح	پہلے	چالیس	دن	اور-چالیس	رات	اور-سُنا
	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H0885</a>

یְהוּדָה  
 یہوواہ-نے  
 میری  
 بھی  
 وقت  
 اُس  
 نہیں  
 چاہا  
 یہوواہ-نے  
 تباہ-کرنا-تجھے  
[H3068](#)  
[H0413](#)  
[H1571](#)  
[H6471](#)  
[H1931](#)  
[H3808](#)  
[H0014](#)  
[H3068](#)

ہوا۔آمادہ پر کرنے نہ ہلاک تجھے اور سنی میری بھی دفعہ اِس نے رب تو گزارے پر پہاڑ رات اور دن 40 مرتبہ دوسری نے میں جب

11	וַיֹּאמֶר	יְהוּדָה	אֵלָיו	קוֹם	לְךָ	לְמוֹסַע	לְפָנָי	הָעַם	וַיִּבְאֹל	וַיִּרְשׁוּ	אֶת-
	اور-کہا	یہوواہ-نے	مجھ-سے	اُٹھ	جا	سفر-پر	آگے	قوم-کے	اور-جائیں-وہ	اور-قبضہ-کریں	کو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H4550</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H0853</a>		

הָאָרֶץ  
 زمین  
 جس-کی  
 قسم-کھائی-میں-نے  
 اُن-کے-باپ-دادا-سے  
 دینے-کو  
 اُنہیں  
[H0776](#)  
[H7650](#)  
[H0001](#)  
[H5414](#)

تھا۔ کیا سے دادا باپ کے اُن کر کہا قَسَم نے میں وعدہ کا جس کریں قبضہ پر ملک اُس کر جا وہ تاکہ کر راہنمائی کی قوم ۱۱ جا، کہا، نے اُس

12	וַעֲתָהּ	יִשְׂרָאֵל	מָה	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	שָׂאֵל	מִעֲמֹד	כִּי	אִם	לְיָרְאָה	אֶת	יְהוָה
	اور-اب	اے-اسرائیل	کیا	یہوواہ	تیرا-خدا	مانگتا-بے	تجھ-سے	سوائے	اِس-کے	ڈرنا	کو	یہوواہ
	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7592</a>				<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>

	אֱלֹהֶיךָ	לְלֶכֶת	בְּכֹל	דְּרָכָיו	וּלְאַהֲבָה	אֹתוֹ	וְלַעֲבֹד	אֶת	יְהוָה
	تیرے-خدا-سے	چلنا	سب	اُس-کی-راہوں-میں	اور-محبت-کرنا	اُس-سے	اور-خدمت-کرنا	کو	یہوواہ
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>

	אֱלֹהֶיךָ	בְּכֹל	לְבַבְךָ	וּבְכֹל	נַפְשֶׁךָ:
	تیرے-خدا-کی	سارے	اپنے-دل-سے	اور-ساری	اپنی-جان-سے
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5315</a>

کرے، پیار اُسے چلے، پر راہوں تمام کی اُس مانے، خوف کا اُس ٹو کہ یہ صرف ہے؟ کرتا تقاضا کیا سے تجھ خدا تیرا رب سن! بات میری اب اسرائیل، اے کرے خدمت کی اُس سے جان و دل پورے اپنے

13	לְשׂוֹמֵר	אֶת	מִצְוֹת	יְהוָה	וְאֶת	חֻקֹּתָיו	אֲשֶׁר	אָנֹכִי	מִצְוֹת	הַיּוֹם
	ماننا	کو	احکام	یہوواہ-کے	اور-کو	اُس-کے-قوانین	جو	میں	حکم-دے-رہا-ہوں-تجھے	آج
	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2708</a>		<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3117</a>

لְטוֹב לְךָ:  
بھلائی-کے-لیے تیری

ہوں۔ رہا دے لئے کے بہتری تیری تجھے اُنہیں میں آج کرے۔ عمل پر احکام تمام کے اُس اور

14	הֵן	לִיהוָה	אֱלֹהֶיךָ	הַשָּׁמַיִם	וּשְׁמַי	הַשָּׁמַיִם	הָאָרֶץ	וּכְלֹ	אֲשֶׁר
	دیکھ	یہوواہ-کے-ہیں	تیرے-خدا-کے	آسمان	اور-آسمانوں-کے	آسمان	زمین	اور-سب	جو
	<a href="#">H2005</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	

כָּהָ:  
اُس-میں-ہے

ہے۔ خدا تیرا رب مالک کا سب ہے، پر اُس کچھ جو اور زمین آسمان، پورا

15	רַק	בְּאֲבֹתֶיךָ	יְהוָה	לְאַהֲבָה	אוֹתָם	וַיְבָרֵךְ	בְּזַרְעָם	אֲחֵרֵיהֶם
	صرف	تیرے-باپ-دادا-سے	یہوواہ-نے	محبت-کرنے-کو	اُن-سے	اور-چُنا	اُن-کی-نسل-میں-سے	اُن-کے-بعد
	<a href="#">H7535</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H2233</a>	

	בָּכֶם	מְכֹל	הַעַמִּים	כִּי־	הַיּוֹם:
	تمہیں	سب-سے	قوموں-میں-سے	دن-کی-طرح	اِس
	<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2088</a>

جیسا دی ترجیح پر قوموں تمام دوسری کر جن تمہیں نے اُس اور کی۔ محبت سے اُن کے کر اظہار کا شفقت خاص اپنی ہی پر دادا باپ تیرے نے اُس تو یہی ہے۔ ظاہر آج کہ

16	וּמִלְאָהֶם	אֶת	עֲרֵלָת	לְבַבְכֶם	וְעַרְפְּכֶם	לֹא	תִקְשׁוּ	עוֹד:
	اور-ختنہ-کرو	کا	غلاف	اپنے-دلوں-کا	اور-اپنی-گردن	نہیں	اکڑاؤ	پھر
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6190</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H6203</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7185</a>	<a href="#">H5750</a>	

جاؤ۔ نہ اُڑ آئندہ ہو۔ بھی باطنی بلکہ ظاہری صرف نہ وہ کہ رکھو دھیان لیکن ہے، نشان کا قوم کی اُس ختنہ

17	כִּי יְהִי	אֱלֹהֵיכֶם	הוא	אֱלֹהֵי	הָאֱלֹהִים	נְאֻדֵּי	הָאֲדָנִים	הָאֱל	הַגְּבֹר	הַגְּבֹר
	کیونکہ	تمہارا-خدا	وہ	خدا	خداؤں-کا	اور-خداوند	خداوندوں-کا	خدا	بڑا	قادر
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0113</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H1368</a>

וְהַנְּזָא  
اور-بیبت-ناک  
אֲשֶׁר  
جو  
לֹא  
نہیں  
יִשָּׂא  
اُنھاتا  
פְּנִים  
چہرے  
וְלֹא  
اور-نہیں  
יִקַּח  
لیتا  
שְׂחָד:  
رشوت  
[H3372](#)  
[H3808](#)  
[H5375](#)  
[H6440](#)  
[H3808](#)  
[H3947](#)  
[H7810](#)

رشوت اور کرتا نہیں داری جانب وہ ہیں۔ کھاتے خوف سب سے جس ہے خدا زور آور اور عظیم وہ ہے۔ رب کا ربوں اور خدا کا خداؤں خدا تمہارا رب کیونکہ لیتا۔ نہیں

18	עֲשֵׂה	מִשְׁפָּט	יְתוֹם	וְאֶלְמָנָה	וְאֶתְבָּ	זֶר	לָתֵת	לְו	לְחֵם	וְשִׂמְלָה:
	کرنے-والا-بے	انصاف	یتیم-کا	اور-بیوہ-کا	اور-محبت-کرنے-والا	پر دیسی-سے	دینے-کو	اُسے	روٹی	اور-کیڑا
	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H8071</a>	<a href="#">H8071</a>	<a href="#">H8071</a>

بے۔ کرتا مہیا پوشاک اور خوراک اُسے اور کرتا پیار سے پر دیسی وہ ہے۔ کرتا انصاف کا بیواؤں اور یتیموں وہ

19	וְאֶתְבָּתֶם	אֶת-	הַגֵּר	כִּי-	גֵרִים	הָיִיתֶם	בְּאֶרֶץ	מִצְרָיִם:
	اور-محبت-کرو	سے	پر دیسی	کیونکہ	پر دیسی	تھے-تم	زمین-میں	مصر-کی
	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H4714</a>

تھے۔ پر دیسی میں مصر بھی تم کیونکہ آؤ، پیش سے محبت ساتھ کے اُن بھی تم

20	אֶת-	יְהוָה	אֱלֹהֵיךָ	תִּירָא	אֹתוֹ	תַעֲבֹד	וְבו	תְּדַבֵּק	וּבְשִׁמּוֹ	תִּשְׁבַּע:
	سے	یہوواہ	تیرے-خدا-سے	ڈر	اُس-کی	خدمت-کر	اور-اُس-سے	لیٹا-رہ	اور-اُس-کے-نام-سے	قسم-کھا
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H1692</a>	<a href="#">H1692</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H7650</a>

کھا۔ قسم کی نام کے اسی اور رہ لپٹا سے اُس کر۔ خدمت کی اُس اور مان خوف کا خدا اپنے رب

21	הוא	תְּהַלְתֶּךָ	וְהוּא	אֱלֹהֵיךָ	אֲשֶׁר-	עֲשֵׂה	אִתְּךָ	אֶת-	הַגְּדֹלֹת	וְאֶת-
	وہ	تیری-حمد-بے	اور-وہ	تیرا-خدا-بے	جس-نے	کیا	تیرے-ساتھ	کو	بڑے-کام	اور-کو
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H8416</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>

הַנְּזָא  
بیبت-ناک-کام  
אֲשֶׁר  
جو  
רָאוּ  
دیکھا  
עֵינֶיךָ:  
تیری-آنکھوں-نے  
[H3372](#)  
[H0428](#)  
[H7200](#)

دیکھے۔ خود نے تُو جو کئے کام ڈراؤنے اور عظیم تمام وہ نے جس ہے خدا تیرا وہ ہے۔ فخر تیرا وہی

22	בְּשִׁבְעִים	זָפֹשׁ	יָרְדוּ	אֲבֹתֶיךָ	מִצְרָיִם	וְעַתָּה	שִׁמְךָ	יְהִי	אֱלֹהֵיךָ
	ستر	جانوں-میں	اُترے	تیرے-باپ-دادا	مصر-میں	اور-اب	بنایا-تجھے	یہوواہ-نے	تیرے-خدا-نے
	<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>

כְּכֹכְבֵי  
ستاروں-کی-طرح  
הַשָּׁמַיִם  
آسمان-کے  
לְרֹב:  
کثرت-میں  
[H3556](#)  
[H8064](#)  
[H7230](#)

بے۔ دیا بنا بے شمار مانند کی ستاروں تجھے نے خدا تیرے رب اب اور تھے۔ افراد 70 تو تھے گئے مصر دادا باپ تیرے جب